

برائے فوری اجراء

## برامپٹن اینیمل سروسز نے ایمرجنسی پیٹ فوڈ پیٹری کے ذریعے کمیونٹی کی معاونت بڑھا دی ہے

برامپٹن، آن (14 جنوری 2022)۔ برامپٹن اینیمل سروسز نے برامپٹن میں پالتو جانوروں کے ایسے مالکان کی مدد کے لیے ایمرجنسی پیٹ فوڈ پیٹری کا آغاز کر دیا ہے، جنہیں پالتو جانوروں کی خوراک، بلیوں کے لٹر اور جانوروں کی دیگر بنیادی اشیاء کی ضرورت ہو۔

ایمرجنسی پیٹ فوڈ پیٹری کا مقصد پالتو جانوروں کے مالکان کو ایک ہفتے سے لے کر ایک مہینے تک کے لیے پالتو جانوروں کی چیزوں کے ساتھ معاونت فراہم کرنا ہے، جس کا انحصار طلب اور عطیات پر ہوتا ہے۔ برامپٹن اینیمل سروسز نے اس قدم کو ممکن بنانے کے لیے مقامی پیٹ ویلیو اور فیش کو کے ساتھ شراکت داری کی ہے۔

کاروباروں کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ 905.458.5800 پر کال کر کے یا [animal.services@brampton.ca](mailto:animal.services@brampton.ca) پر ای میل کر کے ایمرجنسی پیٹ فوڈ پیٹری کی معاونت کریں۔

رہائشی برامپٹن اینیمل شیلٹر میں بلیوں، کتوں اور دیگر چھوٹے جانوروں کے لیے سیل شدہ، خشک یا کین میں بند پیٹ فوڈ عطیہ کر سکتے ہیں، جو 475 کرسلر ڈرائیو پر واقع ہے۔ درکار اشیاء کی فہرست کے لیے، برامپٹن اینیمل سروسز کی [ایمازون ویش لسٹ](#) یا برامپٹن اینیمل سروسز کے [فیس بک پیج](#) کو ملاحظہ کریں۔

پالتو جانوروں کے مالکان ایمرجنسی پیٹ فوڈ پیٹری تک رسائی حاصل کرنے کے لیے اینیمل سروسز کے کسی نمائندے سے بات کرنے کے لیے 905.458.5800 پر کال کر سکتے ہیں، [Animal.Services@brampton.ca](mailto:Animal.Services@brampton.ca) پر ای میل کر سکتے ہیں یا [ایک آن لائن فارم جمع کروا سکتے ہیں](#)۔ برامپٹن اینیمل سروسز اشیاء کو پیک کرے گی اور وصولی کی ہدایات فراہم کرے گی۔ پالتو جانوروں کے مالکان سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ اپنے پالتو جانور کے متعلق تفصیلات شامل کریں، مثلاً ان کے پالتو جانور کی قسم، ان کے پاس کتنے پالتو جانور ہیں اور ان کی عمریں کیا ہیں، آیا انہیں کبل یا کین بند خوراک کی ضرورت ہے یا دیگر ایسی اشیاء، جو انہیں اپنے جانوروں کا خیال رکھنے کے لیے درکار ہوں۔

ایمرجنسی پیٹ فوڈ پیٹری کے متعلق مزید معلومات کے [www.brampton.ca/animalservices](http://www.brampton.ca/animalservices) پر ملاحظہ فرمائیں۔

### اقتباسات

"برامپٹن اینیمل سروسز کی ایمرجنسی پیٹ فوڈ پیٹری پورے برامپٹن میں پالتو جانوروں کے ایسے مالکان کی معاونت کرے گی، جنہیں اپنے پالتو جانوروں کا خیال رکھنے کے لیے بنیادی اشیاء کی ضرورت ہے، خاص طور پر اس مشکل وقت میں۔ انہیں پالتو جانوروں اور خاندانوں کو ایک ساتھ رکھیں – میں ضرورت مند افراد کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ وہ ہماری ٹیم سے رابطہ کریں۔"

- بیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"ایمرجنسی پیٹ فوڈ پیٹری کمیونٹی کو وسائل شیئر کرنے اور برامپٹن کے پالتو جانوروں کو خوش اور صحت مند رکھنے کے لیے اکٹھا کرتی ہے۔ اس قدم کی کامیابی کا انحصار کمیونٹی کی سخاوت پر ہوتا ہے۔ اس پروگرام کی معاونت کرنے کے قابل کاروباروں اور رہائشیوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ پالتو جانوروں کی ضروری اشیاء عطیہ کریں۔"

- جیف بومین، سٹی کونسلر وارڈز 3 اور 4؛ چیئر، کوآپریٹ سروسز، سٹی آف برامپٹن

"ہمارے عطیہ کاروں اور شراکت داروں کا شکریہ، جو ایمرجنسی پیٹ فوڈ پیٹری کو ممکن بنانے میں مدد کرتے ہیں۔ یہ قدم ہماری پوری کمیونٹی کو اس مشکل وقت میں صحت مند اور محفوظ رکھنے میں ایک اہم کردار ادا کرے گا۔ اگر آپ کو اپنے پالتو جانوروں کے لیے معاونت درکار ہے، تو براہ کرم رابطہ کریں۔"

- ٹگ ویلنٹز، سٹی کونسلر وارڈز 2 اور 6؛ چیئر، کوآپریٹ سروسز، سٹی آف برامپٹن

"برامپٹن اینیمل سروسز ہمارے زبردست شہر میں تمام جانوروں کے لیے نگہداشت اور تحفظ فراہم کرنے کے لیے وقف ہے۔ ایمرجنسی پیٹ فوڈ پیٹری پالتو جانوروں کے کئی مالکان کو اپنے پالتو جانوروں کی دیکھ بھال کرنے اور اس بات کو یقینی بنانے میں معاونت فراہم کرے گی، کہ وہ خوش اور صحت مند رہیں۔"

- ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن

-30-

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 700,000 سے زائد لوگوں اور 75,000 سے زائد کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)